


قصة

Decision



Ursula Natula ✎
Vusi Malindi ✎
Samrina Sana 📄
|| 2
🗨️ | ur / English | en



Global Storybooks

globalstorybooks.net


قصة / Decision

Ursula Natula ✎
Vusi Malindi ✎
Samrina Sana (ur) 📄



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>





میرے گاؤں میں بہت سے مسائل تھے۔ ہم نے ایک نل سے
پانی بھرنے کے لیے ایک لمبی قطار بنائی۔

...


My village had many problems. We
made a long line to fetch water from
one tap.


We waited for food donated by others.

...

انتظار کیا۔

ہم نے دوسروں کی طرف سے ملنے والی غذا کے لیے انتظار کیا۔






چوروں کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو جلدی بند کر
دیا۔

...

We locked our houses early because of
thieves.



ہم سب نے ایک آواز سے کہہ، ہمیں اپنی زندگی کو
تبدیل کرنا ہوگا۔ اس دن سے ہم نے اپنے مسائل کو حل
کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کیا۔


...

We all shouted with one voice, "We
must change our lives." From that day
we worked together to solve our
problems.

Another man stood up and said, "The men will dig a well."

...


ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ مردوں کو چھوڑنا چاہیے۔




Many children dropped out of school.

...

بہت سے بچے سکول سے نکال دیئے گئے۔






نوجوان لڑکیوں نے دیگر گاؤں میں نوکرانی کے طور پر
کام کیا۔

...

Young girls worked as maids in other
villages.



ایک عورت نے کہ، 'خواتین کھانے میں اضافہ کرنے میں
شمولیت اختیار کر سکتی ہیں۔'


...

One woman said, "The women can join
me to grow food."

Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, "I can help with cleaning up:"

...


میں، چھ برس کے، نے کہا، "میں ایک درخت پر بیٹھ کر آٹھ سال سے زیادہ کی مدد کر سکتا ہوں۔" صفائی میں




Young boys roamed around the village while others worked on people's farms.

...

نوجوان لڑکے گاؤں کے آس پاس گھومنا پھیرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دیگر لوگ لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ گاؤں کے






جب ہوا چلی فالتو کاغذ درختوں اور جنگلوں پر لٹک گئے۔

...

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.



میرے والد کھڑے ہو گئے اور کہے، 'ہمیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔'

...


My father stood up and said, "We need to work together to solve our problems."

People were cut by broken glass that was thrown carelessly.

...

-گوس کو ختر آگے۔


لو سے رخ کی کالچ پوے کئے تھینک سے تھیلانی




People gathered under a big tree and listened.

...

-لوگ پڑے درخت کے نیچے جمع ہوئے اور انہوں نے سنا۔






اور ایک دن نل سوکھ گیا اور ہمارے برتن خالی ہو گئے۔

...

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.



میرے باپ نے گھر گھر جا کے لوگوں کو گاؤں کے اجلاس

میں شرکت کرنے کے لیے کہے۔

...

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.